



## سوال

(252) ایک آدمی کی تنخواہ چار ہزار روپے ہے کیا اس پر قربانی واجب ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک آدمی کی تنخواہ یا آمدن ۵ ہزار تک ہے وہ کہتا ہے میں صاحب نصاب نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس ساڑھے سات تولہ زکوٰۃ نہیں ہے اور میں اپنی آمدن ہر ماہ خرچ کر دیتا ہوں ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

قربانی کے لیے زکوٰۃ کا نصاب شرط نہیں۔ کتاب و سنت میں کوئی ایسی تصریح وارد نہیں، جس میں قربانی کے لئے نصاب زکوٰۃ کو شرط قرار دیا گیا ہو۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ کے دس سالہ طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اور سفر و حضر میں ہمیشہ قربانی جیتے رہے، جیسا کہ جامع الترمذی میں ہے:

عن ابن عمر قال أقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ عشر سنین یضحی

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں دس سال قیام فرما رہے اور قربانی ذبح کرتے رہے“

پس ثابت ہوا قربانی کے لئے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں، لہذا اس آدمی کو یہ حیلہ بہانا کرنا جائز نہیں۔ اس کو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ خوش دلی کے ساتھ قربانی دینی چاہیے ورنہ سخت جرم کا مرتکب اور نافرمان اور تارک سنت ہوگا علاوہ ازیں یہ بات ذہن نشین رہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے ساڑھے سات تولہ سونا موجود ہونا ضروری نہیں۔

(۱: روہ الترمذی مشکوٰۃ باب الاضحیۃ ص ۱۲۹)

اگر اس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت کے برابر نقد رقم یا سامان تجارت موجود ہو تو بھی وہ شخص شرعاً صاحب نصاب ہے۔ مختصر یہ کہ اس آدمی پر قربانی لاگو ہے اور قربانی نہ کرنے کی وجہ سے یہ تارک سنت ہے اور مذہب حنفی کے مطابق واجب کا شمار ہے کیونکہ حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات  
محدث فتویٰ

## فتاویٰ محدثیہ

ج 1 ص 663

محدث فتویٰ